

(جناب شارق ایم اے)

غزل

شبِ الم جو تری یاد کے چراغِ جلے ہم اپنے آپ سے تادیر روئے مل کے گلے
 تمام لطف تھا آزادیوں سے والبتہ اب اس کے بعد تین ہزار بار جلے
 قدم قدم پہ ہیں کانٹے قدم قدم پہ شرار رہِ وفائیں ذرا آدمی سنبھل کے چلے
 اب اور جانے غمِ عشق کیا دکھائے گا کسی نے نام لیا اس کا اور اشک ڈھلے
 نشان اس کا زمانہ مٹا نہیں سکتا قدم قدم پہ جو نقشِ وفا بنا کے چلے
 ادھر ہے منزلِ جاناں ادھر ہیں دارو رسن غمِ حیات بتا اب کوئی کدھر کو چلے

ہمارے شوق کی منزل نہ پوچھو اے شارق

دل اپنا راہِ نما ہے جدھر کو لے کے چلے

(جناب قمر مراد آبادی)

غزل

ذراتِ دل بکھو کے نہ پھر عمر بھر ملے ملنے کو ان کی راہ میں شمس و قمر ملے
 یہ وہم تھا کہ ان کو پہاڑی خبر نہیں آئے جو ہوش میں تو ہمیں بے خبر ملے
 پھر برق ہی گرمی نہ حجابات ہی اٹھے میں منتظر رہا کہ جوابِ نظر ملے
 مایوس ہو کر بیٹھ نہ کارِ حیات سے ممکن ہے دل کی خاک میں کوئی بشر ملے
 حسن اور عشق ایک ہی مرکز پہ آگئے بچھڑے تھے ہم جہاں سے اسی راہ پر ملے
 تنہا ہمیں سے طے نہ ہوئیں غم کی منزلیں وہ بھی قدم قدم پہ شریکِ سفر ملے

رنجوریاں بھی راسِ ذائیں ہمیں قمر

غم بھی ملے تو عشق میں راحت اترے